



## نبی کریم ﷺ، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما نماز ”الحمد للہ رب العالمین“ کے ساتھ شروع کرتے تھے

انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما نماز ”الحمد للہ رب العالمین“ کے ساتھ شروع کرتے تھے امام مسلم نے اس کی زیادتی کی ہے کہ وہ نہ تو قراءت کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر کرتے نہ ہی اس کے آخر میں اور احمد، نسائی اور ابن خزیمہ کی ایک روایت میں ہے کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جہراً نہیں پڑھتے ابن خزیمہ کی ایک دیگر روایت میں ہے کہ وہ سراً پڑھتے تھے

[یہ حدیث اپنی تمام روایات کے اعتبار سے صحیح ہے] [اسے ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے] - [اسے امام نسائی نے روایت کیا ہے] - [اسے امام احمد نے روایت کیا ہے] - [متفق علیہ]

اس حدیث میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ نبی کریم ﷺ اور صاحبین (ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما) نماز میں سورۃ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ جہری طور پر نہیں پڑھتے تھے یہ اس بات کی تاکید ہے کہ بسم اللہ سورۃ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے ابن خزیمہ کی دوسری روایت میں ہے کہ وہ سراً پڑھا کرتے تھے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ بلوغ المرام میں کہتے ہیں: صحیح مسلم کی روایت کی نفی کو اسی معنی پر محمول کیا جائے گا (یعنی بسم اللہ کو ذکر نہیں کیا کرتے تھے) کا مطلب ہے جہراً بسم اللہ نہیں پڑھتے تھے) بخلاف ان کے جو اس روایت کو معلول کہتے ہیں مستقل فتویٰ کمیٹی (سعودی عرب) کا کہنا ہے کہ: صحیح ہے کہ بسم اللہ سورۃ فاتحہ اور دیگر سورتوں کا حصہ نہیں بلکہ یہ سورۃ نمل کی مستقل آیت ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے: ﴿إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ اور اس کا سوائے سورۃ براءت کے علاوہ ہر سورت کے شروع میں پڑھنا مستحب ہے اور یہ بھی مسنون ہے کہ نماز میں ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ کو سورۃ فاتحہ سے پہلے سری طور پر پڑھا جائے گا

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/10911>



النجاة الخيرية  
ALNAJAT CHARITY

